

Community Connectors

مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے معذور لوگوں کے لیے مدد



درست مدد ملنے سے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔

مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے معذور لوگوں کا NDIS سے رابطہ کرنا

کیا آپ کو کوئی معذوری ہے یا آپ کسی ایسے شخص کی دیکھ بھال کرتے ہیں جسے National Disability Insurance Scheme (NDIS) کی طرف سے فراہم کی جانے والی مدد سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ Community Connectors پروگرام کا مقصد آپ کو اپنی کمیونٹی کے اندر آپ کی تہذیب کے لحاظ سے موزوں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ آپ کا NDIS سے رابطہ ہو جائے۔

اپنے مقامی Community Connectors سے رابطہ کریں:



NDIS کیا ہے؟

NDIS ایک مفت سرکاری پروگرام ہے جو معذور لوگوں کو خدمات اور مدد فراہم کرتا ہے۔



NDIS میری مدد کیسے کر سکتی ہے؟

مدد اور خدمات میں یہ شامل ہو سکتا ہے:

- آپ کی روزمرہ ذاتی سرگرمیوں کے لیے مدد
- کام کی جگہ پر مدد تاکہ آپ ملازمت حاصل کرنے یا برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں
- گھریلو کاموں میں مدد تاکہ آپ کے گھر کا ماحول درست رہے
- کہیں آنے جانے کے لیے امدادی ذرائع اور/یا آلات



Community Connector کون ہوتا ہے؟

Community Connectors (کون ہوتا ہے؟) مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے لوگوں اور انگلش نہ بولنے والوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ NDIS حاصل کر سکیں۔



یہ آپ کے اور NDIS کے درمیان رابطہ شخص کا کردار ادا کرتے ہیں۔

آپ کا Community Connector ان کاموں میں آپ کی مدد کر سکتا ہے:

- NDIS کے لیے درخواست دینا
- آپ کو آپ کے مقامی NDIS رابطوں سے جوڑنا
- آپ کو وہ مدد فراہم کرنا جس سے آپ NDIS کی خدمات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور استعمال کر سکیں۔

انٹرنیٹ (زبانی مترجم) کا استعمال

اگر آپ کو اس صفحے پر لکھی باتیں سمجھنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے تو براہ مہربانی ٹیلیفون انٹرنیٹ سروس (TIS) (131 450) کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ وہ اس مقامی سروس پرووائیڈر سے آپ کا رابطہ کروائیں جو اوپر لکھا ہے۔



National Community Connectors Program

ایک مشترکہ پروگرام ہے جسے NDIS،

Federation of Ethnic Communities' Councils

اور National Ethnic Disability Alliance مل کر

چلا رہے ہیں۔ اس کے لیے مالی وسائل

National Disability Insurance Agency مہیا کرتی ہے۔

یہاں دیکھیں: neda.org.au یا fecca.org.au

